

اصلاحی/رہائشی گھر ٹوئن من بچے اور کم سن لڑکوں کا گھر

• سروس کی تفصیل

سماجی بہبود کا محکمہ (SWD) عدالت کی ہدایات پر عمل کرنے کے لئے سماجی کام کی مداخلت کے ذریعے، مطابقت پذیر نہ ہو سکے والے بچوں/کم سن لڑکوں اور نوجوان مجرموں کے لئے رہائشی تربیت کی خدمت فراہم کرتا ہے۔ سروس مطابقت کاری حاصل کرنے اور سہولیات کے مشترکہ استعمال کو فعال کرنے کے لئے، SWD نے، 2007 سے، ایک کثیر المقصد رہائشی کمپلیکس میں چھ اصلاحاتی اور رہائشی گھروں کا اشتراک کیا ہے، جس کا نام ٹوئن من بچوں اور کم سن لڑکوں کا گھر (TMCJH) ہے، جو ایک پناہ گاہ کی جگہ، ایک ریمانڈ ہاؤس، ایک منظور شدہ ادارہ (آزمائشی مدت کا گھر) اور ایک اصلاحاتی اسکول کے طور پر خدمت کرتا ہے۔

• ٹارگٹ گروپ

TMCJH ایک گزٹڈ گھر ہے، اور ذیل کے قانونی تقاضوں کے ساتھ مطابقت میں بچوں/کم سن لڑکوں اور نوجوان مجرمان کے لئے عارضی حراست اور رہائشی تربیت فراہم کرتا ہے -

- بچوں اور کم سن لڑکوں کے تحفظ کا قانون (باب 213)، امیگریشن کے قانون (باب 115) اور بچپن کے اغوا اور تحویل کے قانون (باب 512) کے تحت، پناہ گزینی کی ایک جگہ
- نوعمر مجرمان کے قانون (باب 226) کے تحت ایک ریمانڈ گھر
- مجرمان کی آزمائشی مدت کے قانون (باب 298) کے تحت ایک منظور شدہ ادارہ (آزمائشی مدت کا گھر)
- اصلاحاتی اسکول کے قانون (باب 225) کے تحت اصلاحاتی اسکول

• گنجائش

388

• سروس مندرجات

(I) تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت
رہائشی افراد کی مختلف اکادمیاتی سطحات اور سیکھنے کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے قیام کی طوالت کے تناظر میں انہیں تعلیمی اور عمومی مضامین اور متنوع مہارتوں کے تربیتی کورسوں کی تدریس فراہم کی جاتی ہے، تاکہ انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا سکے اور/یا ان کی پیشہ ورانہ جستجو اور گھر سے اخراج کرنے پر تسلیم شدہ اہلیت کے ساتھ ملازمت کے امکانات کو بڑھایا جا سکے۔

(II) انفرادی مشاورت اور گروپ کام کی خدمات

انفرادی رہائشیوں کی اپنی تفہیم کی پیش رفت، سماجی مہارتوں، جذبات کے انتظام اور معاملہ پر مشاورت اور گروپ کام سے مثبت سوچ کے ذریعے ذاتی اور باہمی اور خاندانی مسائل سے نمٹنے میں معاونت کی جاتی ہے۔ گھر کے سماجی کارکنان ہر ایک رہائشی فرد کی پیشرفت اور ضروریات پر فالو اپ کرتے ہیں، اور بہبود/بحالی کے منصوبوں پر کام کرنے اور ان کا نفاذ کرنے کے لئے رہائشی افراد کے والدین/سرپرستوں اور معاملے کے سماجی کارکنان / آزمائشی مدت کے افسران کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ مقصد رہائشی افراد کو مشکلات پر قابو پانے اور کمیونٹی میں دوبارہ انضمام کے لئے تیاری میں خود اعتمادی اور خود-نظم و نسق کی تعمیر کرنا ہے۔

(III) کمیونٹی کنکشن

گھر رہائشی افراد کے لئے مختلف کمیونٹی تنظیموں کی جانب سے مختلف اقسام کے گروپ اور معاون سرگرمیوں کو چلانے کا بندوبست کرتا ہے تاکہ وہ ایک بامعنی کمیونٹی کنکشن قائم کر سکیں۔ کمیونٹی خدمت کے منصوبوں کو رہائشی افراد کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے، اور کمیونٹی کو ان کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے قابل بنانے میں مدد کے لئے منظم کیا جاتا ہے۔ رہائشی افراد کو کمیونٹی کی سرگرمیوں اور رضاکارانہ خدمات میں حصہ لینے کی

حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مواصلات کی مہارتوں، قیادت اور خود کی قدر کو پروان چڑھا سکیں، جو ان کی کمیونٹی میں انضمام کے لئے موزوں ہو۔

(IV) تفریحی سرگرمیاں

رہائشیوں کے لئے فنون لطیفہ، موسیقی، ثقافتی، کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے ایک وسیع سلسلے کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحت مندانہ مشغله فروغ دے سکیں، ذاتی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں اور امکانی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں۔

(V) سرپرست کا دورہ / خاندانی کام / غیر حاضری کی اجازت

والدین یا سرپرستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور گھر میں اپنے بچوں سے ملنے کے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ رہائشی افراد کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے مثبت مواصلت قائم کرنے اور تعلقات میں بہتری لانے میں مدد کے لئے معاملہ کی مشاورت اور والدین-بچوں کی سرگرمیوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ آزمائشی مدت کے گھر اور اصلاحاتی اسکول کے رہائشیوں کے لئے، غیر موجودگی کی چھٹی ان رہائشیوں کو دی جا سکتی ہے جو رہائشی تربیت کی ایک مدت کے بعد مستحکم ہو چکے ہیں تاکہ گھر سے ان کے اخراج کرنے کے بعد ان کی موثر خاندان معاونت کے حصول میں سہولت مہیا کی جا سکے۔

(VI) طبی نگہداشت

یہ گھر، گھر کے نرسوں کے ذریعے رہائشیوں کے لئے 24 گھنٹہ نرسنگ خدمت فراہم کرتا ہے۔ صحت سے متعلق گفتگو، رہنمائی اور ذاتی حفظان صحت کے معاملات پر مشاورت بھی دی جاتی ہے۔ وزٹنگ میڈیکل افسران عمومی طبی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ایسے رہائشیوں کے لئے جو خاص جسمانی، ذہنی یا نفسیاتی ضروریات کے حامل ہیں، انہیں تشخیص، مشورہ اور علاج کے لئے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں اور/یا کلینیکل نفسیات دان کا حوالہ دیا جائے گا۔

(VII) کھانے کی فراہمی

رہائشیوں کے لئے روزانہ کی غذا کیپٹرننگ سروس کے کنٹریکٹر کے رجسٹرڈ شدہ ماہر تغذیہ کی طرف سے فراہم کردہ غذائی مشورے پر عمل کرتی ہے۔

• فیس اور چارجز

تمام خدمات بلا کسی معاوضہ مہیا کی جاتی ہیں۔

• پتہ اور رابطہ نمبر

پتہ: 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories

ٹیلی فون نمبر: 24607102

فیکس نمبر: 24607812